



# کیا آپ کو معلوم ہے؟

گھر میں ہونے والی آتش زدگی سے کیسے بچا جا  
سکتا ہے

- کھانا پکانے کے دوران باورچی خانے ہی میں رہیں
- کمرے سے باہر نکلتے وقت موم بتیاں بجھا دیں
- چھوٹے برقی آلات کے پلگ نکال دیں
- سگرٹ کے بچے ہوئے ٹکڑوں اور راکھ کو کسی گہرے ایش ٹریے  
یا دھاتی برتن میں پھینکیں
- دیا سلائیوں اور لائٹرز کو بچوں کی پہنچ سے دور ر


اپنا سموک الارم بجنے کی صورت میں فوری طور پر گھر سے  
اہر نکل جائیں اور نکل کر دروازہ بند کر دیں۔

## دروازہ بند رکھیں!

دروازے بند رکھنے سے آگ کا پھیلاؤ کم ہوتا ہے، نقصان میں کمی آتی ہے  
اور زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔

کیا آپ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سوتے ہیں؟  
اپنے بیڈروم کے اندر سموک الارم لگانے کے بارے  
میں غور کریں۔

گھر میں آگ لگ جانے کی صورت  
میں ہمیشہ **9-1-1** کو کال کریں۔ اس کو خود  
سے بجھانے کی کوشش نہ کریں۔



905.458.5580

firelife@brampton.ca



**BRAMPTON**  
Flower City